



# اگر ووٹ نہیں، تو رائے نہیں۔

مزید معلومات کے لیے  
lambeth.gov.uk/vote ملاحظہ کریں

## سالانہ انتخابی فہرستیں (الیکٹورل کینوس) بدل رہی ہیں!

برائے کم جلد سے جلد فارم کا جواب دے کر وقت اور کونسل کے مالی اخراجات کو بچانے میں ہماری مدد کریں۔

### ووٹ کے لیے رجسٹرڈ ہونا کیوں اہمیت کا حامل ہے؟

- اگر آپ رجسٹرڈ شدہ ہیں تو صرف تب آپ انتخابات میں ووٹ دے سکتے ہیں۔
- انتخابی رجسٹر دوسرے اہم کاموں کے لئے بھی استعمال کیا جاتا ہے، جس میں کریڈٹ ریفرنس ایجنسیوں کے ذریعہ آپ کے کریڈٹ سکور (مالی حیثیت) کا تجزیہ کرنے میں مدد ملتی ہے۔
- اگر آپ کا نام رجسٹر میں نہیں ہے تو آپ قرضہ، مورگیج یا موبائل فون کا معاہدہ حاصل نہیں کر سکتے ہیں
- جولائی میں اپنے کینوس نوٹیفیکیشن کے منتظر رہیں!

ایسے افراد موجود ہوں جو فارم میں شامل نہیں ہیں یا

- آپ کو موصول ہونے والے نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہو کہ آپ کا جواب دینا لازمی ہے۔

### میں کس طرح جواب دے سکتا ہوں؟

جواب دینے کا تیز اور آسان ترین طریقہ انٹرنیٹ پر اس پتہ پر آن لائن ہے:  
[householdresponse.com/lambeth](http://householdresponse.com/lambeth)

آپ کو دو حصوں میں ایک سیکیورٹی کوڈ ڈالنے کی ضرورت ہوگی جو فارم پر بھی چھپا ہوا ہوتا ہے۔

گھرانے کا کوئی بھی فرد جواب دے سکتا ہے۔ اگر آپ مطلوبہ معلومات فراہم نہیں کرتے ہیں تو، ووٹر کی تفصیلات کی تصدیق کرنے کے لیے ہمیں آپ کے گھر کا ذاتی دورہ کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔

لیمبیتھ کے انتخابی رجسٹریشن آفیسر کو ووٹر کی تفصیلات درست ہونے کے عمل کو یقینی بنانے کے لیے ہر سال بارو کے تمام گھرانوں میں ووٹر کی تعداد کو جاننا ہوتا ہے۔

اس سال انتخابی فہرستیں بدل رہی ہیں۔ ہم جولائی کے آخر سے لیمبیتھ میں تمام رہائشی گھرانوں سے رابطہ کریں گے۔

### کیا مجھے کینوس نوٹیفیکیشن (سرکاری رابطے) کا جواب دینا چاہئے؟

کینوسنگ کے نئے قواعد کے تحت ہمیں ووٹروں کی تفصیلات کی پڑتال کرنے کے لیے ان تفصیلات کا دوسرے ریکارڈ کے ساتھ موازنہ کرنے کی اجازت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ گھرانوں کو نوٹیفیکیشن کا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہوگی۔

آپ کو جواب درج ذیل کی صورت میں دینا ہوگا:

- اگر فارم میں کوئی معلومات غلط ہوں، یا آپ کے گھرانے میں ووٹ ڈالنے کے اہل